

Time: 10 Minutes	Paper G. Science 8th	Total Marks: 10
5th Month, 2nd Week, 3rd Day	Syllabus: Unit # 9: Examples of refraction from daily life	

Q.No.1 Encircle the correct answer from the following choices. (0.5×4=2)

درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں اور اس کے گرد اورہ لگائیں۔

1. The twinkling of the stars takes place due to:

ستاروں کا چکنا کی وجہ سے واقع ہوتا ہے:

(a) Reflection	ریفلکشن	(b) Refraction	رینفریکشن
(c) Diafraction	ڈایافریکشن	(d) Transmission	ٹرانسمیشن

2. The colours of light are:

(a) Three	تین	(b) Five	پانچ	(c) Seven	سات	(d) Nine	نou
-----------	-----	----------	------	-----------	-----	----------	-----

3. The shape of base of prism is:

(a) Triangular	میثاں نما	(b) Rectangular	مستطیل نما
(c) Squar	مربع نما	(d) All of these	یقیناً

4. When sunlight passes through prism it splits due to:

جب سورج کی روشنی پر زم میں سے گزرتی ہے تو یہ کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے:

(a) Reflection	ریفلکشن	(b) Diafraction	ڈایافریکشن
(c) Dispersion	ڈیسپرشن	(d) Refraction	رینفریکشن

Q.No.2. Write the short answers. (2 × 2 = 4)

مختصر جوابات لکھیں۔

(i) What is rainbow?

توس قریح کیا ہے؟

(ii) What is prism?

پر زم کیا ہے؟

Q.No.3. Write a note on followings. (4)

درج ذیل پر نوٹ لکھیں۔

(i) Twinkling of stars.

ستاروں کا چکنا۔

(ii) Seeing a fish under water.

پانی کے اندر مچھلی کو دیکھنا۔

Time: 10 Minutes	Paper G. Science 8th	Total Marks: 10
5th Month, 2nd Week, 3rd Day	Syllabus: Unit # 9: Examples of refraction from daily life	

Q.No.1 Encircle the correct answer from the following choices. (0.5×4=2)

درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں اور اس کے گرد اورہ لگائیں۔

1. The twinkling of the stars takes place due to:

ستاروں کا چکنا کی وجہ سے واقع ہوتا ہے:

(a) Reflection	ریفلکشن	(b) Refraction	رینفریکشن
(c) Diafraction	ڈایافریکشن	(d) Transmission	ٹرانسمیشن

روشنی کے رنگ ہوتے ہیں:

(a) Three	تین	(b) Five	پانچ	(c) Seven	سات	(d) Nine	نou
-----------	-----	----------	------	-----------	-----	----------	-----

پر زم کی بیس کی شکل ہوتی ہے:

(a) Triangular	میثاں نما	(b) Rectangular	مستطیل نما
(c) Squar	مربع نما	(d) All of these	یقیناً

4. When sunlight passes through prism it splits due to:

جب سورج کی روشنی پر زم میں سے گزرتی ہے تو یہ کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے:

(a) Reflection	ریفلکشن	(b) Diafraction	ڈایافریکشن
(c) Dispersion	ڈیسپرشن	(d) Refraction	رینفریکشن

Q.No.2. Write the short answers. (2 × 2 = 4)

مختصر جوابات لکھیں۔

(i) What is rainbow?

توس قریح کیا ہے؟

(ii) What is prism?

پر زم کیا ہے؟

Q.No.3. Write a note on followings. (4)

درج ذیل پر نوٹ لکھیں۔

(i) Twinkling of stars.

ستاروں کا چکنا۔

(ii) Seeing a fish under water.

پانی کے اندر مچھلی دیکھنا۔